کلا گنج کا شاہکار

अंजलि

اداکاران

نمی - شیلا رحمانی

جیتن آنند

قیمت ۱؍

رتن اینڈ کو بک سیلرز دریبہ کلاں دھلی

سٹوری انجلی کی کہانی بلند ہمتی سے آغاز کی ایک جھلک ہے۔ یہ گوتم بدھ کے دیش چھوٹے اور چھوٹے شما گرد بھکشو آنند کی زندگی کا ایک ورق ہے۔ جس میں دو حسین لڑکیوں کی داستان محبت جھلملاتی ہے ——— ایک طرف ایک اچھوت لڑکی کا پیار ہے۔ وہ لڑکی جس کی رگ رگ میں شباب کی بجلیاں تڑپتی ہیں۔ دوسری طرف ایک راجکماری کی پاکیزہ محبت ہے ——— آگے پردہ پر دیکھیں۔

انجلی کے گانے

گانا نمبر ۱

جیارا ہولے ہولے ڈول کہیں نہ کانا لگ جائے
پریت نگریا کٹھن ڈگریا ویگ چلا نہ جائے
پہلے ہی پگ میں باورا دوجے پہ پچھتائے
سن کر میٹھے بول پپیہا تڑپ تڑپ مر جائے
جیارا ہولے...

اکھیاں برا گن ہو گئیں تن میں لاگی آگ
نس نس کا باجے اِک تارا برہن گائے راگ
لے کر دیکھ انمول پیگی ٹمک ٹمک لہرائے
جیارا ہولے...

پھول ہنسے کلیاں شرمائیں چندا چڑھا برات
من ہی من جیوڑی مسکائے کہے نہ من کی بات
نینن موتی رول باوری ٹمک ٹمک ایل کھائے
جیارا ہولے...

گانا نمبر ۲

لو چوری پکڑی گئی
چھنک گئی چھن چھن پیجنیاں
چھنن نہ نہ چھن چھن
لو چوری پکڑی گئی

نئی نیائی ہے ہائے بھر گیا پانی
دنیا کو مل گئی بات اک سہانی
چھو لیسے پڑے ہائے ایسی جوانی
اپنی بھی بن گئی آج اک کہانی
میں ٹھنوں میں جکڑی گئی
چھنک گئی چھن چھن پیجنیاں
لو چوری پکڑی گئی

نندیا کو پلکوں کی اوٹ سلا کے
پلکوں پہ بلما کی سیج بچھا کے
اپنے پرایوں سے انکھیاں چرا کے
ملنے کو آئی دیا را بجھا کے
ہائے پھر بھی میں پکڑی گئی
چھنک گئی چھن چھن پیجنیاں
لو چوری پکڑی گئی

گانا نمبر ۳

رم جھم رم جھم گھٹا چھائی
کنج کنج گنجن بھنورے کا کرتا کس کو تن من ارپن

ندیا کے لہروں کی پایل - چھن نک چھن نہ نہ نہ نہ نہ
کرتا کس کو تن من ارپن - گنج گنج گنجن بھنورے کا
بدھم سُرنم گچھامی ...

اُوشا کے ہونٹوں کی لالی - پلوں کا چھن بھر کا جیون
کرتا کس کو تن من ارپن - گنج گنج گنجن بھنورے کا
بدھم سرنم گچھامی ...

دیپ جلتے بجھتے آئے - کھلے پھول کھل کر مرجھائے
پھر بھی بجھے نہ جلتی آشا - پڑے نہ پھیکا من کا درپن
کرتا کس کو تن من ارپن - گنج گنج گنجن بھنورے کا
بدھم سرنم گچھامی ...

دھمم سرنم گچھامی - سنگھم سرنم گچھامی

گانا نمبر ۴

چھائی گھٹا آکاش پر سنگ اُڑتے سکھ چین
پپیہا آشا چھوڑ دے آگئی کالی رین
جوگی تو سے نیناں لگا کے پچھتائی
اپنے دیکھ دیکھ مسکائیں - دنیا کرے برائی
جوگی تو سے ....

راتوں کے سنسان اندھیروں نے بھی تو دیکھا ہے
بیتی کری رو رو تاروں سے دید کسی کی آئی
جوگی تو سے ....

گانا نمبر ۵

جگ جانوروں کا میلہ - بٹیا جگ جانوروں کا میلہ

بھوں بھوں بھوں بھوں گورو پکارے
ڈھینچو ڈھینچو چیلہ - ارے ڈھینچو ڈھینچو چیلہ
بیٹا جگ جانور روں...

کیا بلّی کیا اُلو کتا - کیا گیدڑ کیا ہاتھی
پریم کرے بجو بن جائے - ملے نہ جیون ساتھی
سمجھ دیا تو نا کے چیلے ، اُلو رہا اکیلا
بیٹا جگ جانور روں..
پریم پریم دُنیا رٹے - پریم نہ سمجھے کوئے
ایکبار جو اسے سمجھ لے - رو رو ٹھوکا سوئے
رو رو ٹھوکا سوئے
کیسے یہ پار رسا گیا نی
ایسا سنکٹ پڑے کہ پھر تو دودھ ملے نہ پانی
روٹی تو ہے پھر بھی روٹی - سمجھے بیٹا کیر ایلے نہ کیلا
بیٹا جگ جانوروں..
نا دھن دِھنا - نا دِھن دِھنا
ناچِن چِنا - ناچِن چِنا
جگ جانوروں...
میلہ میلہ میلہ میلہ میلہ
بیٹا
گرو جی
ادھر پیلے
آگیا

بتاجی
بکہ بھی

جگ جانوروں . . . .
گانا نمبر ۶

کس کس کو دیکھ پیار کرے
جب لاکھ پتنگے جلتے ہوں

کیوں پھول ڈھیل میں پل جائے
جب بھونرے آہیں بھرتے ہوں

چندا کا اس میں دوش ہی کیا
تارے روئیں یا مسکائیں

چاہے اوس نہیں اُن کے آنسو
یا موتی بن کر ڈھل جائیں

کیوں کھلے کمل کمُلا جائیں
جب مرنے والے مرتے ہوں
کس کس کو دیکھ پیار کرے
جب لاکھ . . . .

جوگی تم جوگ رما بیٹھے
اپنے میں دھیان لگا بیٹھے

البیلوں سے پیار کی کیا آشا
جو اپنا آپ گنوا بیٹھے

پھر بھی تم کو ہی جانیں گے ۔ ہم جیتے ہیں یا مرتے ہوں
کس کس کو دیکھ پیار کرے ـــــ جب لاکھ . . .

گانا نمبر

روؤں میں گن گن تارے او
آشاؤں کے دیپک بجھ گئے
اک اک کر کے سہارے او — روؤں میں۔۔۔
کس دنیا میں دل کھو بیٹھی
اپنے پرائے سب رو بیٹھی
ڈھونڈ کر تھکیں نین تمہارے او — روؤں میں۔۔۔
آ پہنچی لہروں میں نیّا
تمہیں کھو کت جاؤں کھویّا
بہہ گئے دور کنارے او — روؤں میں۔۔۔
آشاؤں کے دیپک بجھ گئے
اک اک کر کے سہارے او — روؤں میں۔۔۔

گانا نمبر

دیپک سے دیپک جل گئے — تو آج اندھیرے ڈھل گئے
مہک اٹھا جیون بنیا — گلشن نیا یوون بنیا
ٹوٹی ہیں کرنیں چندر کی — تو جگ کو اجلا دن بنیا
تو اپنے بھاگیہ بدل گئے — دیپک سے۔۔۔
اب چل تھک کے آگے چلیں — آگے چلیں آگے چلیں
سنسان راتوں میں تیرے — ہاتھوں نے دیپک جلیں
تو تھک کے راہی سنبھل گئے — دیپک سے۔۔۔

ختم شد

سینڈوولی

کیا آپ اپنے آپکو کمزور محسوس کرتے ہیں؟ اجابت صاف نہیں آتا۔ قبض بنی رہتی ہے۔ اچھے سے اچھا کھانے پر بھی تندرستی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کھایا ہوا ادویہ گھی یا طاقت کی دوائیں آپکو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتیں۔ بلکہ الٹی کمزوری آتی ہے۔ یا آپکا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ یا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ذرا سی محنت کرنے میں سانس پھولنے لگتی ہے۔ دن رات پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑ گئے ہیں۔ اور آپ کسی بھی ذمہ داری کے کام سے جی چرانے لگے ہیں۔ یا کمر یا گھٹنے میں درد رہتا ہے۔ کمر پنڈلی اور سر میں درد رہتا ہے۔ جسم میں خون کا بننا بند ہو گیا ہے۔ یا اسی طرح کی اور تکلیف ہو تو علاج میں دیر کرنا خطرناک ہے۔ آپ آج ہی سینڈوولی منگائیں۔ اس سے آپکی تکلیفیں جلد دور ہو جائینگی۔ اگر پورا کورس استعمال کرنے پر بھی فائدہ نہ ہو تو قیمت واپس کر دیگا۔ نسخہ کا نام ساتھ بھیجا جاتا ہے۔

قیمت	۱ شیشی	۱۵ دن کا کورس	۳/۲/-
″	۲ ″	۳۰ ″ ″	۵/-/-
″	۳ ″	۴۵ دن کا پورا کورس	۷/-/-

محصولڈاک معاف

ایک سال یا اس سے زیادہ دنوں کے بیمار پورا کورس ہی استعمال کریں۔

اپنے آپکو کمزور رکھنا پاپ ہے۔ طاقتور بنکر اپنے گھر سماج و دیش بھارت کو خوبصورت بنانے میں اپنی مدد دیجئے

نریندرا اینڈ کمپنی کنجس ہیرالڈ دریبہ کلاں دھلی

(الہ آباد پریس دہلی)